



## نوجوان کھلاڑیوں کے لیے صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا وقت آگیا، اعجاز احمد

- تربیتی کیمپ اور وارم اپ میچز میں قومی انڈر 19 ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اصل امتحان اب شروع ہوگا، اعجاز احمد

لاہور، 17 جنوری 2020ء:

آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ 2020 میں شرکت کی غرض سے جنوبی افریقہ میں موجود قومی انڈر 19 اسکواڈ نے جمعرات کو پوچیف اسٹروم کے نارتھ ویسٹ یونیورسٹی اسپورٹس ویلج میں تین گھنٹے تک جاری رہنے والے ٹریننگ سیشن میں بھرپور پریکٹس کی۔ 17 جنوری سے شروع ہونے والے ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ اتوار کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔

میگا ایونٹ میں اپنے سفر کے آغاز سے قبل پریٹوریا میں نائیجیریا اور سری لنکا کے خلاف دونوں وارم اپ میچز میں کامیابی حاصل کرنے والی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم بدھ کی شام پریٹوریا سے پوچیف اسٹروم پہنچی تھی۔

اعجاز احمد، ہیڈ کوچ قومی انڈر 19 ٹیم:

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈکپ سے قبل قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی تیاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ہیڈ کوچ اعجاز احمد نے کہا کہ پہلے وارم اپ میچ میں نائیجیریا جیسی قدرے کمزور ٹیم سے مقابلہ ہوا، حریف ٹیم کو 109 رنز پر ڈھیر کرنے کے بعد قومی انڈر 19 ٹیم کے بلے بازوں کو بھی زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اوپنر حیدر علی کی برق رفتار نصف سنچری کی بدولت پاکستان نے وارم اپ میچ میں 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔

اعجاز احمد نے کہا کہ سری لنکا انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے خلاف وارم اپ میچ اصل پریکٹس میچ تھا تاہم فہد منیر کی نصف سنچری سمیت محمد حارث اور حیدر علی کی عمدہ بلے بازی کی بدولت قومی انڈر 19 ٹیم نے دوسرے وارم اپ میچ میں بھی باآسانی کامیابی حاصل کی۔

قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ انڈر 19 ورلڈکپ میں ان کا پہلا ہدف گروپ مرحلے میں ٹاپ کرنا ہے تاکہ ٹیم کوارٹر فائنل بھی پوچیف اسٹروم میں کھیلے کیونکہ گروپ مرحلے کے اختتام پر دوسرے نمبر پر رہنے والی ٹیم کو اپنا کوارٹر فائنل میچ جوہانسبرگ میں کھیلنا ہوگا ، انہیں امید ہے کہ نوجوان کھلاڑی جلد پوچیف اسٹروم کی کنڈیشنز سے ہم آہنگ ہو جائیں گے۔

ہیڈ کوچ نے کہا کہ جنوبی افریقہ پہنچنے کے اگلے روز ہی قومی انڈر 19 ٹیم نے اپنا پہلا وارم اپ میچ کھیلا، جس کے باعث نوجوان کرکٹرز کی باؤلنگ میں ردھم کی کمی نظر آئی مگر سری لنکا کے خلاف عباس آفریدی ، محمد عامر خان، عامر علی اور طاہر حسین نے نپی تلی باؤلنگ کا مظاہرہ کیا ، اس دوران قاسم اکرم اور فہد منیر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔

اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ قومی انڈر 19 اسکوڈ میں نوجوان اور باصلاحیت کھلاڑی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ پہنچنے سے قبل تمام کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں منعقدہ طویل دورانیے کے تربیتی کیمپ میں شرکت کی۔ اعجاز احمد نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ایک قدم آگے آئیں۔

**اسکوڈ (یکم ستمبر 2000 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاسکتا تھا):**

اوپنرز: عبدالواحد بنگلزئی (کوئٹہ)، حیدر علی (راولپنڈی) اور محمد شہزاد (ملتان)۔

مڈل آرڈرز: محمد حارث (پشاور)، محمد حریرہ (سیالکوٹ) اور محمد عرفان خان (لاہور)۔

وڪٽ ڪيپر: روهيل نذير (ڪيٽان)۔

آراؤنڈرز: عباس آفريدي (پشاور)، فهد منير (لاهور)، قاسم اكرم (لاهور)۔

اسپنرز: عامر علي (لاڙڪاڻه) اور آرش علي خان (ڪراچي)۔

فاسٽ باؤلرز: عامر خان (پشاور)، محمد وسيم جونيئر (شمالی وزيرستان) اور طاہر حسين (ملتان)۔

### ٽيم منيجمنٽ:

اعجاز احمد (هيٺ ڪوچ ڪم منيجر)، راؤ افتخار انجم (باؤلنگ ڪوچ)،  
عبدالمجيد (اسسٽنٽ ڪوچ)، حافظ نعيم الرسول (فزيو تھراپسٽ)، صبور احمد  
(ٽرينر)، عثمان هاشمي (اينالسٽ)، عماد حميد (ميڊيا منيجر) اور ڪرنل (ر) عثمان  
رفعت انوري (سيڪورٽي منيجر)۔

### شيڊول:

19 جنوري 2020: پاڪستان بمقابلہ اسڪاٽ لينڊ  
22 جنوري 2020: پاڪستان بمقابلہ زمبابوے  
24 جنوري 2020: پاڪستان بمقابلہ بنگلہ ديش  
9 فروري 2020: فائنل

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

